

# Ziyarat al-Wāritha

زيارة وارثة

دعاية ندب

(Arabic text with English, Urdu Translation & English  
Transliteration)

For any errors / comments please write to: [duas.org@gmail.com](mailto:duas.org@gmail.com)

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.  
To display the font correctly, please use the Arabic font “Attari\_Quran\_Shipped” , Urdu font “Alvi Nastaleeq” & Hindi  
font “Mangal”. Download font here : <http://www.duas.org/fonts/>

This Ziyarat is recited  
on Thursday nights &  
every day & is also a  
means to seek needs  
when recited with  
specific intention.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

O' Allāh send Your blessings on  
Muhammad  
and the family of Muhammad.

اے اللہ! رحمت فرماء محمد وآل (ع) محمد پر

*allahumma salli `ala muhammadin wa ali  
muhammadin*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allāh,  
the All-beneficent, the All-merciful.

عظمیم اور دامنی رحمتوں والے خدا کے نام سے

*bismi allahi alrrahmini alrrahimi*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةٌ  
اللَّهُ

Peace be upon you, O inheritor of Adam the  
choice of Allāh.

آپ پر سلام ہواے آدم (ع) کے وارث جو خدا کے برگزیدہ ہیں

*alssalamu `alayka ya waritha adama safwati allāhi*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيٌّ  
اللَّهُ

**Peace be upon you, O inheritor of Noah the prophet of Allāh.**

پر سلام ہو اے نوح (ع) کے دارث جو خدا کے نبی ہیں

*alssalamu `alayka ya waritha nuhin nabiyyi allāhi*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ  
خَلِيلُ اللَّهِ

Peace be upon you, O inheritor of Abraham  
the intimate friend of Allāh.

آپ پر سلام ہو اے ابراہیم (ع) کے دارث جو خدا کے خلیل ہیں

*alssalamu `alayka ya waritha ibrahima khalili  
allāhi*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمٍ  
أَللّهُ

Peace be upon you, O inheritor of Moses  
the spoken by Allāh.

سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے دارث جو خدا کے کلیم ہیں

*alssalamu `alayka ya waritha musa kalimi allāhi*

آللَّهُمَّ إلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحٍ

آللَّهُ

**Peace be upon you, O inheritor of Jesus the spirit of Allāh.**

آپ پر سلام ہو اے عیسیٰ (ع) کے دارث جو روح خدا ہیں

*alssalamu `alayka ya waritha `isa ruhi allāhi*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ  
حَبِيبُ اللَّهِ

Peace be upon you, O inheritor of  
Muhammad the most beloved by Allāh.

آپ پر سلام ہو اے محمد (ص) کے وارث جو خدا کے حبیب ہیں

*alssalamu `alayka ya waritha muhammadin habibi  
allāhi*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ امِيرِ  
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Peace be upon you, O inheritor of the  
 Commander of the Faithful, peace be  
 upon him.

آپ پر سلام ہو اے علی کے دارث جو رسول (ص) کے وصی ہیں

*alssalamu `alayka ya waritha amiri almu'minina*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مُحَمَّدٍ  
الْمُصْطَفَى

**Peace be upon you, O son of Muhammad  
the well-chosen Prophet.**

آپ پر سلام ہو اے محمد مصطفیٰ (ص) کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna muhammadin almustafa*

آلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى

Peace be upon you, O son of `Ali the well-pleased.

آپ پر سلام ہو اے علی مرتضی (ع) کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna `aliyyin almurtada*

آللَّاّمُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فَاطِمَةَ الْزَّهْرَاءِ

Peace be upon you, O son of Fatimah the  
luminous lady.

آپ پر سلام ہو اے فاطمہ زہرا (ع) کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna fatimata alzzahra'i*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ خَدِيجَةَ  
الْكُبْرَىٰ

Peace be upon you, O son of Khadijah the  
grand lady.

آپ پر سلام ہو اے خدیجہ الکبریٰ (ع) کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna khadijata alkubra*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ أَلَّهِ وَابْنَ ثَارِهِ

**Peace be upon you, O vengeance of Allāh,  
son of His vengeance,**

آپ پر سلام ہو اے خدا کے نام پر قربان ہونے والے اور قربان ہونے  
والے کے فرزند

*alssalamu `alayka ya thara allahi wabna tharihi*

وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ

and the unavenged so far.

اے ناق بہائے گئے خون

*walwitra almawtura*

اَشْهَدُ اِنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلَاةَ

I bear witness that you established the  
prayers,

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی

*ashhadu annaka qad aqamta alssalata*

وَآتَيْتَ الْزَّكَاةَ

defrayed the poor-rate,

اور زکوٰۃ دی

*wa atayta alzzakata*

وَأَمْرْتَ بِالْمَعْرُوفِ

enjoined the right,

آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا

*wa amarta bilma`rufi*

وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ

forbade the wrong,

اور برے کاموں سے منع فرمایا

*wa nahayta `an almunkari*

وَاطَّعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّىٰ اتَّاكَ  
الْيَقِينُ

and obeyed Allāh and His Messenger until  
death came upon you.

آپ خداور رسول (ص) کی اطاعت میں رہے یہاں تک کہ شہید  
ہو گئے

*wa ata`ta allāha wa rasulahu hatta ataka alyaqinu*

فَلَعْنَ أَلَّهُ امَّةً قَتَلْتُكَ

So, may Allāh remove the blessings from  
the people who slew you.

پس خدا کی لعنت اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا

*fala`ana allāhu ummatan qatalatka*

وَلَعْنَ اللَّهُ أَمَّةً ظَلَمْتُكَ

May Allāh remove the blessings from the people who persecuted you.

خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم ڈھایا

*wa la`ana allāhu ummatan zalamatka*

وَلَعْنَ اللَّهُ أَمَّةً سَمِعَتْ بِذِلِكَ  
فَرَضِيتْ بِهِ

May Allāh remove the blessings from the  
people who were pleased when they had  
heard of your tragedy.

اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے یہ واقعہ سنات تو وہ اس پر خوش ہوا

*wa la`ana allāhu ummatan sami`at bidhalika  
faradiyat bihi*

يَا مَوْلَايَ يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ

O my Master, O Abu-`Abdullah!

اے میرے آقاے ابو عبد اللہ (ع)

*ya mawlaya ya aba `abdillahi*

اَشْهَدُ اِنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ  
 أَلْشَامِخَة

I bear witness that you were light in the  
 sublime loins

میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ وہ نور ہیں جو بلند مرتبہ صلبیوں

*ashhadu annaka kunta nuran fi al-aslabi  
 alshshamikhati*

وَالْأَرْحَامُ الْمُطَهَّرَةُ

and purified wombs;

اور پاک و پاکیزہ رحموں میں مشقیل ہوتا آیا

*wal-arhami almutahharati*

لَمْ تُنْجِسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِإِنْجَاسِهَا

the impurities of the Ignorance Era could  
not object you to filth

آپ زمانہ جاہلیت کی ناپاکیوں سے آلودہ نہ ہوئے

*Iam tunajjiska aljahiliyyatu bi'anjasihā*

وَلَمْ تُلبِسْكَ مِنْ مُدْلِهَمَاتٍ ثِيَابِهَا

nor could it dress you its murky clothes.

اور اس زمانے کے ناپاک لباسوں میں ملبوس نہ ہوئے

*wa lam tulbiska min mudlahimmati thiysihiha*

وَأَشْهَدُ أَنْكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ

I also bear witness that you are one of the  
mainstays of the religion

گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے نگہبان

*wa ashhadu annaka min da`a'im alddini*

وَارْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ

and the supports of the faithful believers.

اور مومنوں کے رکن ہیں

*wa arkani almu'minina*

وَاشْهَدُ أَنِّي أَلِمَّا مُ الْبَرُّ الْتَّقِيُّ

I also bear witness that you are the God-fearing, pious,

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں جو نیک کردار پر ہیز کار

*wa ashhadu annaka al-imamu albarru al-taqiyyu*

آلرَّضِيُّ الْزَّكِيُّ

pleased, immaculate,

پسندیده پاکیزہ

*alrradiyyu alzzakiyyu*

الْهَادِي الْمَهْدِيُّ

guide, and well-guided Imam.

ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے ہوئے ہیں

*alhadi almahdiyyu*

وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةً  
الْتَّقْوَىٰ

And (I bear witness) that the Imams from  
your progeny are the spokesmen of piety,

میں گواہی دیتا ہوں کہ جو امام آپ کی اولاد سے ہوئے ہیں وہ پرہیزگاری  
کے

*wa ashhadu anna al-a'imma min wuldi ka  
kalimatu al-taqwa*

وَأَعْلَامُ الْهُدَىٰ

the signs of guidance,

مظہر ہدایت کے نشان

*wa a`lamu alhuda*

وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ

the firmest handle (of Islam),

مُضبوط و مُحَكَّم رسمی

*wal`urwatu alwuthqa*

وَالْحُجَّةُ عَلَى اهْلِ الدُّنْيَا

and the decisive Argument against the inhabitants of the world.

اور دنیا والوں پر خدا کی دلیل و جھت ہیں

*walhujjatu `ala ahli alddunya*

وَأَشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

And I call Allāh, His angels,

پیگواہ بناتا ہوں اس کے فرشتوں کو

*wa ushhidu allāha wa mala'ikatahu*

وَأَنْبِيَاءُهُ وَرُسُلُهُ

His Prophets, and His Messenger

اور اس کے نبیوں اور رسولوں کو

*wa anbiya'ahu wa rusulahu*

اَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيمَانِكُمْ

to witness for me that I believe in you all  
and in your Return,

کہ میں آپ پر اور آپ کے باپ دادا پر ایمان رکھتا ہوں

*anni bikum mu'minun wa bi'yabikum*

مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَخَوَاتِيمِ  
عَمَلِي

I have full confidence in the laws of my religion and in the seals of my deeds,

اپنے دین کے احکام اور اپنے عمل کے انجام پر

*muqinun bishara'i`i dini wa khawatimi `amali*

وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ

my heart is at peace with you all,

میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے

*wa qalbi liqalbikum silmun*

وَأْمِرِي لِإِمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ

and all my affairs are based on your commands.

اور میرا کام آپ کی پردوی ہے

*wa amri li'amrikum muttbi'un*

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى  
أَرْوَاحِكُمْ

May Allāh's benedictions be on your souls,

خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر آپ کی روحوں پر

*salawatu allāhi `alaykum wa `ala arwahikum*

وَعَلَى اجْسَادِكُمْ وَعَلَى اجْسَامِكُمْ

your bodies, your forms,

آپ کے پاک وجودوں پر

*wa `ala ajsadikum wa `ala ajsamikum*

وَعَلَى شَاهِدِكُمْ وَعَلَى غَائِبِكُمْ

the present and the absent from you,

اور رحمت ہو آپ میں سے حاضر پر اور غائب پر

*wa `ala shahidikum wa `ala gha'ibkum*

وَعَلَىٰ ظَاهِرِكُمْ وَعَلَىٰ بَاطِنِكُمْ

and the apparent and the invisible from  
you.

رحمت ہو آپ کے ظاہر و عیاں اور آپ کے باطن پر۔

*wa `ala zahirikum wa `ala batinikum*

# *Ziyarat Hazrat Ali ibn al-Husayn (A.S)*

زيارة حضرة علي بن الحسين  
(عليه السلام)

آللَّٰهُمَّ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ

Peace be upon you, O son of the  
Messenger of Allāh.

آپ پر سلام ہو اے رسول (ص) خدا کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna rasuli allāhi*

آللَّهِمَّ إِنَّمَا أَنْتَ مُلْكُ الْأَرْضِ  
إِنَّمَا أَنْتَ مُلْكُ الْمُلْكِ  
أَنْتَ مَنْ يَشَاءُ بِهِ يَجْعَلُ  
أَنْتَ مَنْ يَشَاءُ بِهِ يَنْهَا  
أَنْتَ مَنْ يَشَاءُ بِهِ يَنْهَا

Peace be upon you, O son of the Prophet of  
Allāh.

آپ پر سلام ہو اے نبی (ص) خدا کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna nabiyyi allāhi*

آلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

Peace be upon you, O son of the  
commander of the faithful.

سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین (ع) کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna amiri almu'minina*

السلام عليك يا بن الحسين  
الشهيد

**Peace be upon you, O son of al-Husayn the  
martyr.**

آپ پر سلام ہو اے حسین (ع) شہید کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna alHusayni alshshahidi*

السلام عليك ايها الشهيد

Peace be upon you, O martyr.

سلام ہو آپ پر کہ آپ شہید ہیں شہید کے فرزند ہیں

*alssalamu `alayka ayyuha alshshahidu*

السلام عليك ايها المظلوم وابن  
المظلوم

**Peace be upon you, O wronged and harassed and the son of the wrong and harassed.**

آپ پر سلام ہو کہ آپ مظلوم اور مظلوم کے فرزند ہیں

*alssalamu `alayka ayyuha almazlumu wabnu  
almazlumi*

لَعْنَ اللَّهِ أَمَّةً قَتَلَتُكَ

May Allāh remove blessings from those  
who killed you.

خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپکو قتل کیا

*la`ana allāhu ummatan qatalatka*

وَلَعْنَ اللَّهِ أَمَّةً ظَلَمْتُكَ

May Allāh remove blessings from those  
who persecuted you.

خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا

*wa la`ana allāhu ummatan zalamatka*

وَلَعْنَ اللَّهِ أَمَّةً سَمِعَتْ بِذِلِكَ  
فَرَضِيتْ بِهِ

May Allāh remove blessings from those  
who heard of your tragedy but rested  
satisfied.

خدا کی لعنت ہوان پر جنہوں نے یہ واقعہ سناتو اس پر خوش ہوئے

*wa la`ana allāhu ummatan sami`at bidhalika  
faradiyat bihi*

# *Ziyarat Shohada (Martyrs) of Kerbala (A.S)*

زيارة شهداء كربلاء

(عاليه السلام)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ  
وَاحْبَّائِهِ

Peace be upon all of you, O friends and  
dears of Allāh.

اے! اولیا اللہ آپ پر سلام ہو اور اے اللہ کے پیارو

*alssalamu `alaykum ya awliya'a allāhi wa  
ahibba'ahu*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اصْفِيَاءَ اللَّهِ  
وَأَوْدَاءُهُ

**Peace be upon all of you, O choice of Allāh  
and sincerely attached to Him.**

آپ پر سلام ہو اے خدا کے برگزیدہ اور منتخب لوگو

*alssalamu `alaykum ya asfiya'a allāhi wa  
awidda'ahu*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا انصَارَ دِينِ اللَّهِ

Peace be upon all of you, O supporters of  
Allāh's religion.

آپ پر سلام ہو اے دین خدا کی مدد کرنے والو

*alssalamu `alaykum ya ansara dini allāhi*

آللَّهِمَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ

Peace be upon all of you, O supporters of  
the Messenger of Allāh.

آپ پر سلام ہو اے رسول (ص) خدا کی نصرت کرنے والو

*alssalamu `alaykum ya ansara rasuli allāhi*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا انصَارَ امِيرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Peace be upon all of you, O supporters of  
the Commander of the Faithful.

آپ پر سلام ہو اے امیر المؤمنین (ع) کی امداد کرنے والوں

*alssalamu `alaykum ya ansara amiri almu'minina*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا انصَارَ فَاطِمَةَ  
سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

Peace be upon all of you, O supporters of  
Fatimah the doyenne of the women of this  
world.

آپ پر سلام ہو اے فاطمہ کی حمایت کرنے والوں کو تمام عورتوں کی سردار  
ہیں

*alssalamu `alaykum ya ansara fatimata sayyidati  
nisa'i al`alamina*

آللَّا مُ عَلَيْكُمْ يَا انصَارَ ابِي مُحَمَّدٍ

Peace be upon all of you, O supporters of  
Abu Muhammad,

آپ پر سلام ہو اے ابو محمد (ع)

*alssalamu `alaykum ya ansara abi muhammadin*

آلْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ الْوَالِيِّ النَّاصِحِ

al-Hasan the son of `Ali, the saintly and sincere.

حسن بن علی کے مددگار و کہ جو خدا کے ولی اور نصیحت کرنے والے ہیں

*alhasani ibni `aliyyin alwaliyyi alnnasihi*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ ابْيِ عَبْدِ  
الله

Peace be upon all of you, O supporters of  
Abu-`Abdullah.

سلام ہو آپ پر اے ابو عبد اللہ حسین (ع) کی نصرت کرنے والوں

*alssalamu `alaykum ya ansara abi `abdillahi*

بِابِي اَنْتُمْ وَامِّي

My father and mother be sacrificed for you.

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں

*bi'abi antum wa ummi*

طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا  
دُفِنْتُمْ

**Verily, pure be you and pure be the soil in  
which you were buried.**

تم پاکیزہ ہو اور وہ زمین بھی پاک ہے جس میں آپ (ع) مدفون ہیں

*tibtum wa tabat al-ardu allati fiha dufintum*

وَفُزْتُمْ فَوْزاً عَظِيماً

You attained great success.

آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی

*wa fuztum fawzan `aziman*

فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفْوَزَ مَعَكُمْ

**Would that I were with you so that I could  
also share the accomplishment with you.**

اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کرتا۔

*fayalaytani kuntu ma`akum fa'afuza ma`akum*

# *Ziyarat Hazrat Abbas ibn Ali (A.S)*

زيارة حضرة عباس بن علي  
(عليه السلام)

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ  
الْعَبَاسَ بْنَ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

Peace be upon you, O Abu'l-Fadl al-'Abbas  
the son of the Commander of the Faithful.

آپ پر سلام ہو اے ابا الفضل عباس (ع) فرزند امیر المؤمنین (ع) آپ

پر

*alssalamu `alayka ya aba alfadli al`abbasa ibna  
amiri almu'minina*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ سَيِّدِ الْوَصِّيلَيْنَ

Peace be upon you, O son of the chief of  
the successors (of the Prophets).

سلام ہو اے سردار اوصیائی کے فرزند

*alssalamu `alayka yabna sayyidi alwasiyyina*

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اوَّلِ الْقَوْمِ  
إِسْلَامًا

**Peace be upon you, O son of the foremost  
to Islam,**

سلام ہو آپ پر اے سکے فرزند جو اسلام لانے میں امت سے اول،

*alssalamu `alayka yabna awwali alqawmi islamani*

وَأَقْدَمُهُمْ إِيمَانًا

the first to believe,

ایمان میں سے

*wa aqdamihim imanan*

وَأَفْوَمِهِمْ بِدِينِ اللَّهِ

**the best to have served the religion of  
Allāh,**

ان سے مقدم دین خدامیں ان سے بڑھ کر ثابت قدم

*wa aqwamihim bidini allāhi*

وَاحْوَطُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ

and the most careful for Islam.

اور اسلام کی ان سے زیادہ حفاظت کرنے والے تھے

*wa ahwatihim `ala al-islami*

ا شَهَدْ لَقَدْ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ  
وَلَا خِيَكَ

I bear witness that you served Allāh, His Messenger, and your brother sincerely.

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خیر خواہی کی خدا کی اور اس کے رسول (ص) کی

*ashhadu laqad nasahta lillahi wa lirasulihi wa li'akhika*

فَنِعْمَ الْأَخُوْدُ الْمُؤَاسِي

You were the most excellent self-sacrificing brother.

اور اپنے برادر حسین (ع) کی پس آپ بڑے ہی ہمدرد بھائی تھے

*fani`ma al-akhu almuwasi*

فَلَعْنَ أَلَّهُ امَّةً قَتَلْتُكَ

May Allāh remove blessings from the group  
who killed you.

خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپکو قتل کیا

*fala`ana allāhu ummatan qatalatka*

وَلَعْنَ اللَّهُ أَمَّةً ظَلَمْتُكَ

May Allāh remove blessings from the group  
who wronged you.

خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ پر ستم ڈھایا

*wa la`ana allāhu ummatan zalamatka*

وَلَعْنَ اللَّهِ أَمَّةً أَسْتَحَلَّتْ مِنْكَ  
 الْمَحَارَمَ

May Allāh remove blessings from the group  
 who violated your sanctities

اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کی بے احترامی کو جائز سمجھا

*wa la`ana allāhu ummatan istahallat minka  
 almaharima*

وَأَنْتَ هَكَثْ حُرْمَةَ الْإِسْلَامِ

and infringed the sanctity of Islam.

اور اسلام کی حرمت کو بھی پامال کیا

*wantahakat hurmata al-islami*

فَنِعْمَ الصَّابِرُ الْمُجَاهِدُ

You were the most excellent steadfast  
fighter,

پس وہ کیسے صابر جہاد کرنے والے

*fani`ma alssabiru almujahidu*

الْمُحَامِي الْنَّاصِرُ

protector, supporter,

حمایت کرنے والے نصرت کرنے والے

*almuhami alnnasiru*

وَالْأَخُوْدَ الدَّافِعُ عَنْ أَخِيهِ

and brother who defended his brother,

اپنے بھائی کی طرف سے لڑنے والے اپنے بھائی تھے

*wal-akhu alddafi`u `an akhihi*

الْمُجِيبُ إِلَى طَاعَةِ رَبِّهِ

**responded to the obedience to his Lord,**

وہ اپنے پروردگار کی فرمانبرداری پر آمادہ

*almujibu ila ta`ati rabbihu*

الرَّاغِبُ فِيمَا زَهِدَ فِيهِ غَيْرُهُ مِنَ  
الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ

and worked desirably for gaining the abundant reward, which others refused, and the nice tribute.

اس عمل کے شائق جسکے بڑے اجر و ثواب اور تعریف و توصیف سے دوسروں نے منہ موڑا اور محروم رہے

*alrraghibu fima zahida fihi ghayruhu min  
alththwabi aljazili walththna'i aljamili*

وَالْحَقَّكَ اللَّهُ بِدَرَجَةِ آبَائِكَ فِي  
جَنَّاتِ الْنَّعِيمِ

So, Allāh may attach you to the rank of your fathers in the gardens of bliss.

خدا آپ کو ان بزرگوں کے مقام پر پہنچائے نعمتوں بھری جنت میں

*wa alhaqaka allāhu bidarajati aba'ika fi jannati  
alnna`imi*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

O' Alláh send Your blessings on  
Muhammad  
and the family of Muhammad.

اے اللہ! رحمت فرماء محمد وآل (ع) محمد پر

*allahumma salli `ala muhammadin wa ali  
muhammadin*

Please recite  
**Sūrat al-Fātiḥah**  
for  
**ALL MARHUMEEN**

For any errors / comments please write to: [duas.org@gmail.com](mailto:duas.org@gmail.com)

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.